

# آپ کی معلومات کی حفاظت کرنا


ذاتی معلومات سے مراد کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی شناخت ہوتی ہو۔ اس میں آپ کا پہلا نام اور آخری نام، پتہ، تاریخ پیدائش، کام کی جگہ یا مالیاتی تفصیلات شامل ہیں۔

## ذاتی معلومات کی حفاظت کرنا کیوں ضروری ہے؟



ایسا اس لئے اہم ہے کیونکہ انہیں استعمال کر کے کوئی بھی آپ کی شناخت اپنا سکتا ہے۔ اسے شناخت کی چوری کہا جاتا ہے۔

ذاتی معلومات تصاویر اور ویڈیوز کے ساتھ ساتھ تحریر سے بھی پتہ چل سکتی ہیں۔



## میں اپنی معلومات کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں؟

### ★ جعل سازی (scam) کی شناخت کرنا سیکھیں

جرائم پیشہ افراد جعل سازی کی مدد سے پیسے یا ذاتی معلومات چوری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔



جعل سازی کی شناخت کیسے کی جائے، اس بارے میں مزید سیکھنے کے لئے [www.scamwatch.gov.au](http://www.scamwatch.gov.au) پر جائیں۔

### ★ پرائیویسی سیٹنگز

جو ویب سائٹ یا ایپ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی پرائیویسی سیٹنگز کو بدلنے کے لئے 'مددگاری گائیڈ' چیک کریں۔



### ★ محل وقوع کی سیٹنگز

اپنے محل وقوع کی معلومات شیئر کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو اپنے ڈیوائس پر جی پی ایس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے آف کر دیں۔



### ★ صرف محفوظ ویب سائٹس پر خریداری کریں

ایک محفوظ ویب سائٹ کا ویب ایڈریس "https" یا تالے کے ایک نشان سے شروع ہوتا ہے۔



### ★ ایک پیچیدہ پاس ورڈ استعمال کریں

بڑے اور چھوٹے حروف، ہندسے اور کی بورڈ کے اسپیشل کیریکٹرز استعمال کریں۔

\*\*\*\*\*





## آپ کی ذاتی معلومات کی حفاظت کرنے کے لئے ThinkUKnow کی اہم ترین تدابیر

- کسی بھی چیز پر رضامند ہونے سے پہلے شرائط و ضوابط دھیان سے پڑھ لیں۔
- محتاط رہیں اور مشتبہ ای میلز میں موجود لنک پر کلک نہ کریں – انہیں فوراً ڈیلیٹ کر دیں۔
- اپنا ای میل ایڈریس یا فون نمبر اس وقت تک نہ دیں جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ معلومات کس طرح سے استعمال کی جائیں گی۔
- پیچیدہ پاس ورڈ استعمال کرنے کو یقینی بنائیں۔
- یاد رکھیں – اگر کوئی چیز اتنی اچھی لگے کہ یقین نہ آتا ہو تو غالباً یقین نہ کرنا ہی بہتر ہے!

مزید معلومات اور تدابیر کے لئے [www.thinkuknow.org.au](http://www.thinkuknow.org.au) پر جائیں!

ThinkUKnow\_Aus@



facebook.com/ThinkUKnowAustralia



[www.thinkuknow.org.au](http://www.thinkuknow.org.au)

